



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2022/12/7

گورنر HOCHUL نے COVID-19 کے علاج معالجے کی عوامی آگاہی کی نئی مہم کا اعلان کیا ہے تاکہ نیویارک کے ان باشندوں کو آگاہی دی جائے جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے

تقریباً \$1 ملین کی میڈیا مہم کو ریاست کے اس مقصد کے لئے تشکیل دیا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نیویارک کے تمام باشندوں کو COVID-19 کے علاج معالجوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل ہوں

انگریزی اور ہسپانوی کثیر پلیٹ فارم والے اشتہارات ان لوگوں کو، جن کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، ترغیب دیتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جلد از جلد علاج شروع کروائیں

COVID-19 کے علاج معالجے کے طریقوں کے بارے میں مزید معلومات [یہاں](#) دستیاب ہیں

کل لانچ ہونے والی [علاج معالجے کی نئی مفت ہاٹ لائن](#) کے اعلان کے بعد

گورنر Kathy Hochul نے آج عوامی آگاہی کی ایک نئی مہم کو لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے جو ان لوگوں کے لئے علاج کے اختیارات پر مبنی ہے جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور انہیں علامات لاحق ہیں۔ اندازاً \$1 ملین کی آگاہی مہم کو انگریزی اور ہسپانوی میں ٹی وی، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر چلایا جائے گا، جس میں نیویارک کے باشندوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ COVID-19 کے لئے پہلے ہی ٹیسٹ کروا لیا جائے اور اگر ٹیسٹ مثبت آئے تو ممکنہ طور پر جلد از جلد علاج معالجہ کروایا جائے۔ میڈیا کی پیشکش انتظامیہ کے اس عزم کو مزید پختہ کرتی ہے کہ نیویارک کے تمام باشندگان کو COVID-19 کے علاج معالجوں کے بارے میں اور شدید بیمار ہونے سے اپنا تحفظ کرنے میں کیسے مدد حاصل کی جائے اس بارے میں آگاہی دی جائے۔

"ہم اپنی حالیہ کوششوں میں اضافہ کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ جب ہمیں عالمی وبا کا سامنا ہو تو ہم نیویارک کے باشندوں کی حفاظت کر سکیں،" گورنر Hochul نے کہا، "COVID-19 کی علامات کو کم کرنے اور شدید بیماری سے بچاؤ کرنے کے لئے علاج معالجہ ناگزیر ہے، اور عوامی آگاہی کہ یہ نئی مہم نیویارک کے باشندوں کو علاج معالجے کے اختیارات سے متعلق ان حقائق سے روشناس کرے گی جو دستیاب ہیں۔"

ریاست کی صحت کی کمشنر ڈاکٹر Mary T. Bassett نے کہا، "ٹیسٹ کے مثبت نتیجے کے بعد جس قدر جلد علاج معالجہ شروع کر دیا جائے گا، اتنا ہی بہتر وہ علامات کو کم کرنے اور زیادہ سنگین بیماری سے بچانے میں کارگر ثابت ہو گا۔ عوامی آگاہی کی یہ نئی مہم نیویارک کے تمام باشندوں کو علامات کے ظاہر ہوتے ہی جلد از جلد ٹیسٹ کروانے کی ضرورت اور فوری طور پر علاج معالجے کے بہترین اختیار سے متعلق اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندگان سے رابطہ کرنے کے بارے میں ایک اہم پیغام دیتی ہے۔ ویکسین لگوانا اور بوسٹر لگوانا تاحال COVID-19 کے خلاف بہترین تحفظ ہے۔"

یہ مہم COVID-19 کے علاج معالجے کے اختیارات کے بارے میں وسائل تک لنکس کو نمایاں کرتی ہے جو ریاست کے محکمہ صحت (State Health Department) کی ویب سائٹ پر موجود ہیں health.ny.gov/CovidTreatment۔ کثیر پلیٹ فارم والے اشتہارات نیویارک کے ان باشندوں کو، جن کا

COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو، اور جن میں علامات ظاہر ہو رہی ہوں، اُن کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے علاج معالجے کے اختیارات کے بارے میں اپنے نگہداشتِ صحت کے فراہم کنندہ سے بات کریں۔ یہ اشتہارات اگست 2022 تک ٹی وی، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر چلائے جائیں گے۔

ٹیلیویژن کا نیا اشتہار انگریزی اور ہسپانوی دونوں میں یہاں دستیاب ہے:

- 30-سیکنڈ کا انگریزی زبان کا [ورژن](#)۔
- 30-سیکنڈ کا ہسپانوی زبان کا [ورژن](#)۔

ذیل میں 30 سیکنڈز کے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو اشتہار کا سکرپٹ ہے:

اگر COVID-19 کے لئے آپ کا ٹیسٹ مثبت آئے اور آپ میں علامات ظاہر ہوں، تو اپنے نگہداشتِ صحت کے فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ کیا مفت علاج معالجہ آپ کے لئے مناسب رہے گا۔ دیر مت کریں۔ آپ جس قدر جلد علاج معالجہ شروع کریں گے وہ اسی قدر کارگر رہے گا۔ ویکسین لگوانا اور بوسٹر لگوانا تاحال COVID-19 کے خلاف بہترین تحفظ ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہو جائیں، تو گھر پر قیام کریں۔ اور اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آ جائے، تو اپنے علاج معالجے کے طریقوں کے بارے میں فوری طور پر اپنے نگہداشتِ صحت کے فراہم کنندہ سے بات کریں۔ جلد ٹیسٹ کروائیں۔ جلد علاج پائیں۔ مزید جاننے کے لئے ملاحظہ کریں health.ny.gov/CovidTreatment

یہ اعلان [نئی مفت ہاٹ لائن](#) کو لانچ کرنے کے بعد کیا گیا ہے، جس کا اعلان کل گورنر کی جانب سے، COVID-19 کے مثبت ٹیسٹ والے، نگہداشتِ صحت کے فراہم کنندہ سے محروم افراد کے لئے، عالمی وبا کے دوران نیویارک کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کی جاری و ساری انتظامی کاوشوں کے حصے کے طور پر کیا گیا تھا۔ نیویارک شہر سے باہر رہنے والے نیویارک کے تمام باشندے، قطع نظر یہ کہ ان کی آمدنی یا صحت کی انشورنس کی کوریج کیا ہے، جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو، وہ اس بات کے اہل ہوں گے کہ 888-TREAT-NY (888-873-2869) پر کال کرتے ہوئے یا NYS COVID-19 ExpressCare Therapeutics تک رسائی کی ویب سائٹ پر، جس میں ایک ٹیلی میڈیسن ملاقات شامل ہے، ایک جائزہ مکمل کرتے ہوئے علاج کے لئے ان کا جائزہ لیا جائے۔ نیویارک شہر کے رہائشی COVID-19-212 پر کال کریں۔

ملاحظہ کریں [نیویارک ریاست کے محکمہ صحت کی ویب سائٹ](#) جس پر COVID-19 کے حوالے سے نیویارک کے ردعمل سے متعلق مزید معلومات موجود ہیں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیویارک | ایگزیکٹو چیمر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418